



میں اُمید سے ہوں  
حمل ٹھہرنا  
اور بچے کی پیدائش کے بارے میں معلومات



کت درف یس درف



## کیا آپ امید سے بیں اور مدد کی ضرورت ہے؟

جرمنی میں رپائیش پذیر ایسی حاملہ خاتون جو امید سے بو، اگر انہیں حمل سے متعلق مشورے اور مدد کی ضرورت ہو تو حمل سے متعلق مشاورتی مرکز سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ حمل، مانع حمل یا خاندانی منصوبہ بنڈی کے بارے میں تمام سوالات و شبہات پر مفت مشورے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو اس بارے میں بھی معلومات حاصل ہونگی کہ آپ کن سماجی فوائد یا مالی امداد کے لیے درخواست دے سکتے ہیں اور آپ کو مزید مدد کہاں مل سکتی ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ یا کسی اور قابل اعتماد شخص کے ساتھ آپ اکیلے مشورہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مشاورے کے مراکز میں کسی بھی ترجمان کے خدمت حاصل کر سکتے ہیں۔





## کیا میں بچہ پیدا کر سکتی ہوں؟

ے تفہ 12 ے کے زاغا ے کے لمح دعب ے کے نرمٹ لمح نیم ی نمرج نیقی یک ے نرک ادی پ چب پا رگا ۔۔۔ اتکس اج ایک متخ کت ذکرم ی ترواشم یک لمح یس ک رھب و ت نیہ ی تماج ان اورک ین امد ے ک تامادق اے لگا وک پا نیم زکارم ی ترواشم ی نرک مطبار ے س وک لمح ے نپا پا رگا نیہ ی تماج ی د تامولع ی درورض مامت ے یل اک ترواشم کیا رپ روٹ ی مزال وک پا وت نیہ ی تماج ان اورک متخ ے ک ے نرک متخ وک لمح رپ ناہی۔ اگوہ راکرد ٹیکی فی ٹرس پا دعب ے ک سا ۔۔۔ ی مزال ان وہ اک ٹیکی فی ٹرس ی ترواشم ے یل ے ک ترواشم نیہ ے تکس اج ل اتپسہ ای ساپ ے ک رٹکاڈ یس ک متخا ے ک لمح ۔۔۔ اتکس اج ایک متخ اک لمح یہ دعب ند نیت ے یل ے ک ی گی ادا یک تاج ارجا پا نیہ ے قیرط فلت خم ے ک نارود ے ک ترواشم وک پا تامولع مامت نیہ ی تکس ے د تس او خرد ی گ نیہ اج یک م ارف



## ی تماج ان هکر ی راج و ت وک لمح پا ایک ی گدنز ہت اس ے ک ے چب پا نکیل ، نیہ ؟ نیتکس رک نیمن روصت اک ے نرازگ

رظن ی راوشنڈ یوک نیم ے نر ہت اس ے ک ے چب ے نپا وک پا رگا ادی پ چب ۔۔۔ اتکس وہ نش پا بس انم کیا انیل دوگ و ت ے ہ ی تا وک پا ، ے یوہ ے ت هکر رظن دم وک لاح تروص ی تا ذ دعب ے ک ے نرک ے یل ے ک ے چب ے ک پا روا ے نپا نیم ی سن جیا ی لاؤ ے نیل دوگ تامولع روا ہوشم الہک نیم ے راب ے ک ددم روا تارای ت خا مدوچ و م نیہ ی تکس رک لصاح

## ان هکر هی فخ لمح ان پا پآ ای ک ؟ نی هی ته اج



نیهن بس انم پآ نیم سچ مک نیه نیم تلاح نیسیا نیسک پآ رگا  
تروص نیسیا وت، وہ رب خ وک نیسک نیک لمح نے ک پآ مک نیت هج مس  
دو جوم نی هب نش پآ نیک نی هکر هی فخ لمح ان پا ساپ نے ک پآ نیم لاح  
نیه نیت هاج ان هکر هی فخ لمح ان پا پآ مک باج نیم تروص نیسیا نے  
وک نین ٹلسن ک نے ک زکرم نی ترواشم قل عتم نے س لمح فر ص پآ و  
نی رک باختنا اک مان نی ضرف نیسک رهپ روا نی اتب مان لصا ان پا  
مان نی ضرف نی هب نیسک پآ مکات اگ نے رک ددم نیک پآ نین ٹلسن ک.  
رک شئ ادی پ نیک نے جب نیم لاتپس نه هتاس نے ک دادما نی بطب تھت نے ک  
نے تکس رک نیل صیف پآ، دعوب نے ک شئ ادی پ نیک نے جب رهپ نی کس  
نیهن رهپ ای نیه نیت هاج ان هکر ساپ نین پا وک نے جب پآ ای آ مک نیه

## نے ک نے رو شم قل عتم نے س لمح نیم ؟ نوہ نیت کس رک شال نے س نامک زکار م

لمح نیم نے قالع نے ک پآ رپ نامو نیه نیت همر پآ رپ نامو نیم نی نم رج  
ای نون مجن ای حالف فلت خم وج نیه زکار م نے ک نے رو شم قل عتم نے س  
هزئ اج پآ رپ نامو نیه نے تا ج نے ای ال ج نے عیز د نے ک ما کح نے ک تھ حص  
نی رک نے ط تقو اک تاق ال م نی نابریم نے ای رهپ رهپ روا نیه نیت کس نے  
نے عیل نے ک پآ ناری شم مکات، نی ای ال فی رشت رپ تقو مدش نے ط روا  
نی ایل اکن تقو و



Schwangerschaftsberatung - Familien  
in Sachsen - sachsen.de

[www.familie.sachsen.de/schwangerenberatung.html](http://www.familie.sachsen.de/schwangerenberatung.html)





## هت اس ای ک ے هج م نیم زکرم یت ارواشم ؟ ے ی هاچ ان ال

فیرشت ے یل ے ک ے روشنم یس ک پ آی ہب بج نیم زکرم یت ارواشم  
سے نپا تاع اعل طاروا تازی واتس د موجوم مامت هت اس ے نپا ون نیال  
ٹکیا دی او ف نیزگ ہانپ ، ساپ اک ی گ چز نیم سا نیال هت اس  
یک شی امر (تس او خرد ے یل ے ک ہانپ) ٹیکی فی ٹرس اک نوناق  
نیہ ل ماش ہمان ہی ارک رپ رو ط من کیم روا ، ییال ہد / تزاج



## ے سی ک وک ے جب دنم تھص کیا نیم ؟ نوہ یت کس ے د من ج

وک پ آ ے لہپ ے س بس ے یل ے ک ے نرک ادی پ ہج ب دنم تھص کیا  
، ی گ وہ ن اور ک قی دصت یک لمح سے نپا ہ عیرذ ے ک رٹکاڈ یس ک  
رہپ ، اگ وہ لصاح ٹیکی فی ٹرس اک ی گ چز وک پ آ دعب ے ک سا  
مرود ہ عف دی ف اک دی ذم ساپ ے ک رٹکاڈ وک پ آ هت اس ے ک تقو  
شی ادی پ یک ے جب ے ک کت ن اہی ، ی گ وہ ترورض ے ک ے نرک  
، نیم ی نہ رج ی گ وہ ترورض یک سا ے یل ے ک تالاح ی م اگنہ روا  
اہٹا مدی اف اک تا ن احتما ی تظافح تفم کت شی ادی پ نیت او خ مل ماح  
روا حطس یک امن و وو شن یک ے جب رٹکاڈ دوجوم رپ نامو نیہ یت کس  
ے س شی ادی پ نیہ ے ترک منی اعم ے س ی گ دع اقاب اک تھص یک نام  
ای روئن پمک س ن روشن ان ہت لیہ تا ج ارخا ے ک ل اہب ہکی دی ے لہپ  
پ آ نیہ ے تا ج ے کی روب ے عیرذ ے ک رت فد ے ک دوب بب ی ج امس  
یک یئاد روا ت ام دخ گن سرن روا ی ب طن ارود ے ک شی ادی پ یک ے جب  
نیہ را دیح ی ہب ے ک ددم  
وک امن و وو شن دنم تھص یک ے جب ے نپا ن ارود ے ک لمح سے نپا پ آ  
نیہ اہک اذغ عون تم ، نزاوت م ے یل ے ک سا نیہ یت کس ے د غورف  
پ آ ت ای شن نم روا ٹی رگس ، ب ارش نیہ کر حتم رپ رو ط ن امس ج روا  
نیہ یت اجنہپ ن اصق ن وک ے جب ے ک



بیانیہ ترکیبیہ  
رووا روما یا جامس یا ارب ترازو یا تسایر نہ کیں  
زرووا روما یا جامس یا ارب ترازو یا تسایر نہ کیں  
نئے عرض ۱۰۱۰۹۷ Albertstraße 10 |  
لیکھیں: redaktion@sms.sachsen.de  
ویب سایٹ: www.sms.sachsen.de

 [facebook.com/SozialministeriumSachsen](https://facebook.com/SozialministeriumSachsen)  
 [x.com/sms\\_sachsen](https://x.com/sms_sachsen)  
 [instagram.com/sms\\_sachsen](https://instagram.com/sms_sachsen)  
 [youtube.com/sms\\_sachsen](https://youtube.com/sms_sachsen)

رٹیڈیا  
مٹراپیدیل میف

گنثیس پی اس روانی ازیڈ  
Die Sportwerk GmbH

خی رات ی رخا ی تر ادا  
2024 رب جون

سурс رਾਤ  
[www.publikationen.sachsen.de](http://www.publikationen.sachsen.de)

سُوْنَ کَیِ  
یَج امِس روا روما یَج امِس یَع ارب ترازو یَت س ایر ت عاش ہی  
صح ے ک م اک ے ک م اع ت اقل عت مع یزد ے ک ی گ نہ آ  
ک ت خورف ہی۔ ہے ی تاج یک عیاش ت فم رب روط ے ک  
یک رومرگ ای رو ت عام یَس ایس روا ہے ن یہن ے یل  
ی یہن لام عت سا ے یل ے ک تار ام ت شا ی باخت نا ے س فرط  
ہے ات کس ک اج اے ک

**Sprache:** Arabisch